

تفہیم القرآن جلد دوم

میں

کتابت کی اغلاط کی نشاندہی اور تصحیح

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۷	۴	جَاءَهُمْ	جَاءَهُمْ هُنَا صحیح بنائیں۔
۲۶	آخری سطر تفسیر	مَلَائِكَةٍ	مَلَائِكَةٍ لَا پیر دوزبہ دوزیر کاٹ دی
۵۴	۳	امام یوحنیف	امام ابوحنیفہ
۵۹	۱	بِالْبَاسَاءِ	بِالْبَاسَاءِ لے پر جزم بنائیں
۶۸	۲	اِمَّا	اِمَّا م پر شد اور زبہ بنائیں
۷۰	۱۱	اَنْجَمَ	اَنْجَمَ الف پر مد بنائیں
۷۹	تفسیر میں سطر ۶	مَنْ	مَنْ ت پر جزم بنائیں
۸۱	آخری سطر	ارِیْخَ	غیر کا بندہ بن کر رہے۔ غیر کے آگے "کا" تاریخ
۸۹	تفسیر میں سطر ۱۳	لَا تُخَفُّ سَے نہیں دیتے	لَا تُخَفُّ سَے جانے نہیں دیتے۔
۹۲	تفسیر میں سطر ۹	یُرْوَا	ایک واؤ زائد ہے کاٹ دیں
۱۱۲	۳	تَكُنْ مِنْ	تَكُنْ مِنْ مِم پر شد بنائیں
۱۱۵	۲	وَيَسْبَحُونَهُ	وَيَسْبَحُونَهُ ب سے نیچے زیر بنائیں
۱۳۰	تفسیر میں سطر ۱۱	ایک ہی ایک مرتبہ	دوسرا ایک کاٹ دیں
۱۴۷	۴	الصُّدُورِ	الصُّدُورِ ص پر سے لفظ کاٹ دیں۔
۱۵۱	۶	بِأَيِّ	بِأَيِّ الف پر کھڑی زیر بنائیں۔

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۱۵۹	۱	عَزِيزٌ	عَزِيزٌ ذِکے نیچے زیر
۱۸۳	۳	وَرِضْوَانٍ	وَرِضْوَانٍ فون کے نیچے دو زیر
۲۱۳	۸	ان کے ان کے	دو بار ایک "ان کے" کاٹ دیں
۲۹۵	۲	عَنْ	عَنْ الف کاٹ دیں۔
۳۰۰	۲	عَلَيْكُمْ	ع پر سے لفظ کاٹ دیں۔
۳۱۴	۲	وَالْاَرْضِ مِنْ	وَالْاَرْضِ مِنْ من پر نہ ہر کی بجائے زیر
۳۱۶	۱	لِلدَّيْنِ	لِلدَّيْنِ دال کے نیچے زیر
۳۲۶	۳	وَأَجْرٌ	وَأَجْرٌ واؤ پر شدا اور نہ
۳۲۸	تفسیر میں سطر ۱۶	خود تعریف کیا	ایک "خود" کاٹ دیں۔
۳۳۵	۵	إِنِّي	إِنِّي نون کے نیچے زیر ڈالیں
۳۴۴	۱	إِنِّي	إِنِّي نون کے نیچے زیر ڈالیں۔
۳۴۸	۱	مُسْتَقِيمٍ	مُسْتَقِيمٍ ی پر جزم ڈالیں۔
"	۵	خُذُوا	خُذُوا ج کے نیچے نقطہ بنائیں۔
۳۵۸	۴	مَوْعِدُهُمْ	مَوْعِدُهُمْ دال پر پیش کی بجائے زیر
۳۶۹	۱	فِيهَا	فِيهَا ی پر جزم بنائیں
۳۸۳	۳	لَعَلَّكُمْ	لَعَلَّكُمْ ع پر نہ بد بنائیں
۳۸۸	۳	يَبْكُونَ	يَبْكُونَ ک پر نہ ہر کی بجائے پیش
"	۵	وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ	وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ل پر نہ ہر کی بجائے پیش
۳۹۱	۱	نَتَّخِذْكَ	نَتَّخِذْكَ ت پر شدا اور نہ
۴۱۴	۴		سطر کے آخر میں رکوع کا نشان
۴۱۵	۴	لَعَلَّهُمْ	لَعَلَّهُمْ لا پر پیش بنائیں
۴۲۰	۱	وَلَنَا	وَلَنَا لنا کو انا بنائیں
۴۲۵	۵	عَلَيْنَا	عَلَيْنَا ن کا نقطہ بنائیں

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۴۲۹	۲	إِنِّي أَعْلَمُ	إِنِّي أَعْلَمُ ی پر مد میم پر پیش بنائیں
۴۳۳	۳	الْحَلِيمُ	الْحَلِيمُ ل پر جزم
۴۳۷	۳	الْقُرْأَى	الْقُرْأَى ل پر جزم ق پر پیش بنائیں
۴۳۸	ترجمہ کی آخری سطر	والوں کے ہدایت	والوں کے لیے ہدایت - "لیے" بڑھا دیں
۴۴۴	۲	بُطْءٌ بڑے گڑوں کو	بُطْءٌ بڑے گڑوں کو ٹر کی رہنمائی
۴۴۷	۳	تَخِيضُ	تَخِيضُ ص پر پیش بنائیں
۴۷۸	۴	مِنْ مَاءٍ	مِنْ مَاءٍ کے میم پر شداد و زبر
۴۷۹	۴	كَسَبُوا	كَسَبُوا س کے نیچے کھڑی زیر کاٹ دیں۔
۵۰۵	تفسیر میں سطر ۸	خَشِيَّةٌ	خَشِيَّةٌ ؕ پر سے ایک زیر کاٹ دیں۔
۵۰۸	۲	وَعُيُونٌ	وَعُيُونٌ ن کے نیچے دو زیر ڈالیں۔
۵۱۷	۱	بِهْ	بِهْ ؕ کے نیچے کھڑی زیر بنائیں۔
۵۳۷	تفسیر میں سطر ۱۲	ہوتا ہوتا ہے	ہوتا ہے - ایک "ہوتا" کاٹ دیں۔
۵۴۸	۱	بِهْ	بِهْ ؕ کے نیچے کھڑی زیر بنائیں
۵۵۰	۲	بَطُونِهِ	بَطُونِهِ و پر جزم بنائیں۔
۵۷۶	۱	قُلُوبِهِمْ	قُلُوبِهِمْ و پر ایک جزم زائد ہے۔
۵۸۱	تفسیر میں سطر ۱۲	ایک ہی لکڑی نہ ٹانگا	ایک ہی لکڑی سے نہ ٹانگا - لکڑی کے آگے "سے"
۵۸۵	۱	بَنِي إِسْرَآئِيلَ	بَنِي إِسْرَآئِيلَ - ی پر مد الف کے نیچے زیر
۶۰۲	۳	أَجْوَا	أَجْوَا الف پر زبر بنائیں۔
۶۱۲	۱	خَبِيرًا	خَبِيرًا مِم کو لفظ کے آخر میں لائیں۔
۶۱۳	۱	خَطَا	خَطَا ہمزہ بنائیں
۶۲۰	۱	أَذْبَارِهِمْ	أَذْبَارِهِمْ ر کے نیچے زیر بنائیں
۶۸۳	۱۲ پہلی جانب	شریت الہی کو قبول نہ کرنا اور خود اپنا قانون	"اپنا" کاٹ دیں